

Maulana Azad National Urdu University

M.A. (Translation) III Semester Examination - December - 2018

Generic Elective : MATS301GET : Basics of Translation

پرچہ: ترجمے کی مبادیات

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پُر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$
2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ $(5 \times 6 = 30 \text{ Marks})$
3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

حصہ اول

سوال نمبر 1

(جی/غلط)	ادبی ترجمہ میں ترجمہ کا کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟	(i)
(جی/غلط)	فارسی داستان قصہ چہار درویش کو کس نے باغ و بہار کے نام سے اردو میں منتقل کیا؟	(ii)
(جی/غلط)	ترجمے سے متعلق کتاب اردو ترجمے کی روایت : 1700 تا حال، کس نے لکھی؟	(iii)
(جی/غلط)	سانشیک سوسائٹی دہلی نے ترجمے کے اصول وضع کیے۔	(iv)
(جی/غلط)	عثمانی یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں علمی کتابوں کے ترجمے کیے گئے	(v)
(جی/غلط)	کتاب 'فن ترجمہ نگاری' گوپی چند نارنگ نے مرتب کی۔	(vi)
(جی/غلط)	علمی مตون کے ترجمے میں اصل مسئلہ اصطلاحات کا ہوتا ہے۔	(vii)
(جی/غلط)	صحافی ترجمے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟	(viii)
(d) ترجمانی	(a) بامحاورہ ترجمہ (b) آزاد ترجمہ (c) لفظی ترجمہ	(ix)
(d) ان میں سے کوئی نہیں	Political Crisis کے لیے اردو کی متبادل اصطلاح کیا ہوتی ہے۔	(x)
(d) اصل زبان میں مہارت	(a) حکومتی بحراں (b) انتخابی انتشار (c) سیاسی بحراں	
(d) موضع کا علم	ایک مترجم میں ذیل کی کس مہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔	
(d) لسانیات میں مہارت	(a) ہدفی زبان میں مہارت	

حصہ دوم

- .2 دنیا میں ترجمے کے آغاز کے متعلق اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔
- .3 علمی ترجمے کے مسائل پر ایک نوٹ لکھیے۔
- .4 بامحاورہ ترجمے کی تعریف کرتے ہوئے اس طریقہ کار کے استعمال کے میدان کی وضاحت کیجیے۔
- .5 ترجمے کے آلات سے متعلق اپنی معلومات کا اظہار کیجیے۔
- .6 مترجم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے یہ واضح کیجیے کہ ترجمے کے دوران مترجم کون امور کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
- .7 لغت کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ترجمے کے دوران ایک مترجم کے لیے ان کی ضرورت وابہیت بیان کیجیے۔
- .8 تھیس ارس اور انسائیکلو پیڈیا کا تعارف اور ان کا طریقہ استعمال واضح کیجیے۔
- .9 درج ذیل اقتباس کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔

Taj mahal is most attractive and popular scenery look historical place. It is located in Agra, Uttar Pradesh. It is built in very large area at an extremely beautiful place having river on its back side. Taj Mahal is the symbol of the eternal love of the Shah Jahan who had built this in memory of her wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is counted as one of the Seven Wonders of this world. It is the burial place (mausoleum) of the great Empress Mumtaz Mahal.

حصہ سوم

- .10 اردو زبان میں علمی ترجمے کی تاریخ پر روشنی ڈالیے اور ترجمے کے کسی ایک ادارے کا تفصیلی تعارف پیش کیجیے۔
- .11 ”ترجمہ“ میں ایک انسانی سرگرمی نہیں بلکہ تہذیبی و ثقافتی عمل بھی ہے، ”بحث“ کیجیے۔
- .12 ادبی، صحافتی، مذہبی، انسانی اور سماجی علم کے متن کے ترجمے کا طریقہ کار واضح کیجیے۔
- .13 ترجمے کے لیے درکار بنیادی مہارتوں پر ایک نوٹ قلم بند کیجیے۔
- .14 انسانی سماج کی علمی ترقی اور تہذیبی ارتقا میں ترجمے کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔

